(مانهٔ حال Present Tense

By removing last ن from Persian infinitives, we get the simple past of the verb such as from دادن we get داشت we get داشت we get دادن we get دادن we get داشت (He/She had) and from دادن we get دادن

Each infinitive has its imperative called "امر". The present tense of action i.e. verb is formed from the imperative by adding personal terminations to it, as Infinitive (to have) has its imperative دارد. By adding terminations to be we get verbs of present tense (indefinite) as:

ہم نے پڑھا ہے کہ فارسی زبان کے مصادر کا آخری'ن' کم کردیں تو جو باقی رہتا ہے وہ ماضی مطلق ہوتا ہے جیسے داشتن سے 'داشت'۔ ہرمصدر کا ایک امر ہوتا ہے جیسے داشتن کا'دار'۔اس میں شناسہ لگانے سے زمانۂ حال (غیر تعین) کے صیغے بنتے ہیں۔دیکھیے:

You have.
$$(5) - (5 + 1)$$

He/She has.
$$- \cdot \cdot \cdot + \cdot \cdot \cdot + \cdot \cdot \cdot$$

They have.
$$- \operatorname{cl}(\mathbf{i} + \mathbf{i} \mathbf{k}) - \operatorname{cl}(\mathbf{i} + \mathbf{k})$$

م، یم، ی، ید، د، ند are personal terminations, also known as personal endings or شناسه.

- 1. I have money. د من پول دارم
- 2. We have Persian book. ۲ـ ماکتابِ فارسی داریم
- 3. Do you have a copy of Gulistan-e-Sadi? آیا تو یك نسخهٔ گلستانِ سعدی داری؟
- 4. Do you have motor car?
 \$\tag{\frac{1}{2}} \text{if if } \text{if } \text
- 5. He/She has one bag. د او یك كیف دارد.
- 6. They have flowers.



Complete the following sentences of present tense:

مندرجه ذیل زمانهٔ حال کے جملوں کوکمل کیجیے:

I have a book.

We have water.

You have almond.

You have pomegranate.

He has an apple.

They have bread. ایشان نان

مضارع Aorist

مضارع ایسا لفظ ہے جو یہ ظاہر نہیں کرتا کہ کام زمانہ حال کا ہے یا مستقبل کا۔ اس فعل سے زمانہ کا اظہار نہیں ہوتا۔ مثلاً مصدر رفتن ' (جانا) کا امر ہے ' رو ' ۔ اس میں ' د' لگانے سے ' رو د' بنتا ہے یعنی جاتا ہے۔ اس فقر سے سے وقت کا تعین نہیں ہوتا کہ کس وقت یہ کام ہوتا ہے۔ اس طرح مصدر آمدن (آنا) کا امر ہے آئی۔ اس میں شناسہ ' د' لگانے سے 'آید' بنتا ہے۔ عموماً فعل مضارع میں به (ب) لگانے ہیں۔ مثلاً کردن کا امر کن ہے۔ اس میں شناسہ لگانے سے کندفعل مضارع بنتا ہے۔ اس میں به (ب) لگانے سے بکند ہوتا ہے۔ اس طرح برود ، بیاید جیسے الفاظ بنتے ہیں۔

Present and Past stems of Infinitives

	مادّہ حال		مادّه ماضی	مصدر		
	Present Stem		Past Stem	Infinitives		
Âie	آی	Âmad	آمد	To come	آمدن	
Kun	کن	Kard	کرد	To do	کردن	
Purs	پُرس	Purseed	پرسید	To ask	پرسیدن	
Khar	خر	Khareed	خريد	To purchase	خريدن	
Zan	زن	Zad	زد	To hit	زدن	
Khur	خُور	Khurd	خورد	To eat	خوردن	
Nawis	نویس	Nawisht	نوشت	To write	نوشتن	
Nashin	نشين	Nashist	نشست	To sit	نشستن	
Goi	گوی	Guft	گفت	To speak	گفتن	
Farosh	فروش	Farokht	فروخت	To sell	فروختن	
Sâz	ساز	Sâkht	ساخت	To make	ساختن	
Bâzi kun	بازی کن	Bâzi Kard	بازی کرد	ن To play	بازی کردر	
Dost dâr	دوست دار	Dost Dâsht	دوست داشت	ئىتن To like	دوست دان	
Shau	شو	Shud	شد	To be	شدن	
Kâr	کار	Kâsht	كاشت	To cultivate	كاشتن	

Imperatives (فعل امر)

Imperative is the word of command which is derived from the infinitive. The word of command is generally formed by adding the prefix \cdot to the present. The addressee may be either singular or plural.

$$^{\rightarrow}$$
 دادن (To give) – ده (Present Stem) ده – بدهید (Give) دادن (plural) ده (To go) بدهید (To go) بدهید (Go) (Singular), بروید (Plural)

Remember the Past stem and the Present stem of the infinitives given above.

Study the following sentences:



Come here, bring the book, read the lesson

Go outside the class, play on the field.

Come here brother, Sit down here, have tea.

When the command is negative, instead of \cdot ; or \cdot is added to the imperative.

Read the lesson, don't make noise.

Tell the truth, do not tell lies.

It is raining, do not go outside.

، • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Translate the following:	ىندرجەذىل كا
جواب بده۔	٠١
بيرون مبين-	-۲
هيچ سوال مپُرس۔	-٣
کارِ خوب بکنید۔	٤.
بازی مکن ، بخوان۔	_0
هیچ مگو۔	٦.
شور مکن۔	_Y
نامه بنویس۔	

Study the following sentences:

I am playing on the ground.

We are playing in the garden.

You are buying apples in the market.

You are buying apples in the market.

He is making a table.

They are building a house.

They are taking rest under the tree.

I am not playing in the class.

We are not playing in the house.

Good that you do not tell lies.

Good, you never tell lies.

He is not going to Mumbai.

They are not going to cinema.

مندرجه ذيل جملون كامطالعه يجيجية

من در میدان بازی می کنم۔

ما در باغ بازی می کنیم۔

تو در بازار سیب می خریدی۔

شما در بازار سیب می خرید.

او میز می سازد۔

ایشان خانه می سازند.

ایشان زیر درخت استراحت می کنند.

من در کلاس بازی نمی کنم۔

ما در خانه بازی نمی کنیم۔

خوب است که تو دروغ نمی گوئی۔

آفرین! شما هیچ وقت دروغ نمی گوئید.

او به ممبئی نمی رود۔

ایشان به سینما نمی روند.

In the above sentences مى is added before the verb to make the tense as present continuous. However at time 'مى' is also used to express the present indefinite tense.

زمانہ حال استمراری بنانے کے لیے فعل سے پہلے معی کا استعال کرتے ہیں۔البتہ کہیں کہیں 'معی' زمانۂ حال (غیر معیّن) کے لیے بھی استعال ہوتا ہے۔

دروغ	_	Lie
باز <i>ی</i> کردن	_	To play
استراحت كردن	_	To take rest



- (A) Translate into your mother tongue or English: (الف) اینی ماوری زبان یا انگریزی میں ترجمه کیجیے:
 - ۱۔ حامد به بازار می رود۔
 - ۲۔ ایشان هیچ کار نمی کنند۔
 - ۳۔ شماچه کار می کنید؟
 - اد می فروشی من انار می خرم در انار می خرم
 - من نامه می نویسم.
 - ۲۔ ما به مدرسه می رویم۔
- - ٢- او به مدرسه مى رود- (.....
 - ۳۔ فریدہ نان داشت۔
- (C) Complete the following sentences in the Present tense:

(ج) زمانة حال كاستعال كركے جمل كمل سيجيے:

- ١- توسيب مي (خوردن)
- ۲۔ شما شیر گرم می
- ٣۔ ماکتاب می (خواندن)
- ٤۔ ندا بر بیاض من می (نوشتن)
- ٥۔ من لباس نو مي (دوختن)



A pair of eighteenth century Persian vases.